

اپریل - جون
2011

نیوز لیٹر

شرکتی ترقی

پائیدار امن، ہم سب کی خواہش

کراچی میں قیام امن کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جانی چاہیے اور اس میں سیاسی جماعتوں کی متفقہ کوششوں کے ساتھ شہریوں کی شمولیت بھی ضروری ہے۔ ایس پی او نے جو عوام کی رائے اور شمولیت پر یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے، سٹیژن فارڈ یوکریسی کے تحت جشن فیض میں ایک روزہ اسٹال لگایا۔ جس میں کراچی کے شہریوں میں قیام امن کی خواہش جاننے کے لیے عوام کی دستخطی مہم شامل تھی۔ جس کا عنوان تھا



we want Peace in Karachi, do you ?



جس پر عوام نے اپنے تاثرات لکھے اور دستخط کیے۔ امن کے لیے ان کے خیالات سے یہ احساس وضاحت سے سامنے آیا کہ کراچی کے تمام شہری امن چاہتے ہیں۔ ایک شہری نے امن کے من سے تعلق کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ آج سے تیس چالیس سال قبل لوگوں کی آمدنی کم لیکن امن تھا تو اسی میں کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، تقریبات، تفریح، کھیل تماشے سب ہوتے تھے اور لوگ خوش و خرم سکون سے رہتے، آج بھی شہر کو پائیدار امن کی ضرورت ہے امن اور سکون کا یہ نظریہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی عوام نے اس بات پر خوشگوار حیرت کا بھی اظہار کیا کہ پانچ سیاسی جماعتوں کے ارکان ایک ہی پلیٹ فارم پر مل کر ایک ہی ایجنڈے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔

عوام نے امن کی خواہش کے ساتھ ایس پی او کی اس کاوش کو سراہا۔۔۔

ادارہ استحکام شرکتی ترقی (ایس پی او) بانی بنیادوں پر خدمات انجام دینے والا غیر سرکاری ادارہ ہے جو 15 جنوری 1994 کو کپینیز آرڈیننس مجریہ 1984 کی دفعہ 42 کے تحت قومی ادارے کی حیثیت سے رجسٹر ہوا۔ ادارہ بہتر نظم و نسق کے لیے ترقیاتی اداروں کی استعداد اور ضمنی تنہیم میں اضافے، مفاد عامہ میں خدمات انجام دینے والی عورتوں اور مردوں کی تنظیموں کے فروغ، حقوق کی فراہمی اور تحفظ کے لیے پیروکاری کرنے والے سول سوسائٹی تنظیموں کے اتحادوں کی باہمی رابطہ کاری اور متاثرہ افراد کے لیے ہنگامی امداد اور بحالی کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارے کی جانب سے مطلوبہ اہلیت و استعداد رکھنے والی تنظیموں کو تعلیم، صحت، بنیادی سہولتوں کے ڈھانچے کی تشکیل، روزگار اور استعداد کاری کے شعبوں میں وسائل بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔

ادارہ استحکام شرکتی ترقی (ایس پی او) کے کور پروگرام کو آسٹریلیا میں ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی (AusAid)، برطانوی ہائی کمیشن (BHC) اور مملکت نیدرلینڈز کے سفارت خانے (EKN) کی مالی معاونت حاصل ہے۔

ایس پی او ان دیگر امداد دینے والے اداروں کا بھی مشکور ہے جن کی معاونت اس کے موضوعی پروگرامز اور پراجیکٹس کو حاصل ہے۔





ایس پی لاہور اور ملتان نے مل کر بنیادی صحت کی سہولتوں میں بہتری کے لیے مورخہ 18 جون 2011 کو لاہور میں ایک صوبائی میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں 54 مردوں اور 37 خواتین نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ اور صوبے کی سطح سے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ میانوالی، وہاڑی اور مظفر گڑھ سے آئے ہوئے محکمہ صحت کے نمائندوں نے اپنے ضلع کی کامیابیاں، مسائل اور چیلنجز کے حوالے سے معلومات فراہم کیں۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کی ایڈوائزر اور ممبر صوبائی اسمبلی ذکیہ شاہنواز نے بھی شرکت کی۔

سیاسی جماعتوں پر مشتمل سٹیئرنگ کمیٹی گوجرانوالہ نے ایس پی او کے تعاون سے 15 جون 2011 کو کھانے کی سطح پر وومن پولیس سیل کا قیام کے موضوع پر ڈائلاگ کا اہتمام کیا جس میں 15 مردوں اور 13 خواتین نے شرکت کی۔

سول سوسائٹی نیٹ ورک میانوالی نے ایس پی او کے تعاون سے 17 جون 2011 کو ایک ریلی کا انعقاد کیا جس کا مقصد اساتذہ کی تعیناتی کو یقینی بنانا ہے۔

ایس پی او نے ایک سیمینار کا اہتمام کیا جس کا موضوع جمہوری طرز حکمرانی اور سیاسی جماعتوں کا کردار تھا۔



اتحاد برائے انسانی ترقی لاہور نے ایس پی او کے تعاون سے 19 جون 2011 کو امن کانفرنس کا انعقاد کیا جس کا مقصد معاشرے میں امن کو فروغ دینا تھا۔ کانفرنس میں سول سوسائٹی، وکلاء، ڈاکٹرز اور لیبر یونین کے نمائندوں نے شرکت کی۔



ہیلپ فاؤنڈیشن داؤدخیل نے ایس پی لاہور کے تعاون سے 14 اپریل 2011 کو معیاری تعلیم ہر بچے کا حق ہے کے موضوع پر ایک ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی کے شرکاء نے محکمہ تعلیم کے نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ ضلع میانوالی کے ہر بچے کو معیاری تعلیم ملنی چاہیے۔

سپیڈیز ویلفیئر آرگنائزیشن نے ایس پی او کے تعاون سے 22 جون 2011 کو موگی میں امن قائم کرنے میں پولیس اور شہریوں کا کردار کے موضوع پر ایک ڈائلاگ منعقد کیا۔ جس میں 10 خواتین اور 21 مردوں نے شرکت کی۔ پولیس کے نمائندوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے امن قائم کرنے کا عہد کیا۔



Root Causes of Floods

Naseer Memon

THE flood inquiry commission formed in the wake of the 2010 floods, under the Supreme Court's directive, has unveiled that a major cause of the devastating breach of Tori dyke was brazen negligence by the irrigation department.

The report acknowledges that most embankments are not being maintained properly under standard operating procedures.

Earlier inquiries revealed that senior officials responsible for flood management had not even read the manual. Likewise, the president's parliamentary committee on the monitoring of repair and rehabilitation of Sindh's irrigation works conceded that the dykes damaged by last year's floods cannot be fully repaired by the targeted timeline.

The work was initially delayed due to relief operations and later because of procedural delays in the approval of schemes.

The provincial government proposed 76 schemes costing an estimated Rs14bn to repair various dykes. However, the federal government provided only Rs5bn. Resultantly, the province was constrained to repair 41 high-priority sites to avert further disaster. Such is the bureaucratic procedure that only 17 per cent of the targeted work has been completed so far.

The fact that needs to be considered is that the repair and upgradation of dykes will not in itself guarantee full safety against even floods of lower intensity. Historical data of floods in Sindh indicates that last year's floods were not unprecedented in terms of their magnitude; however, the scale of the disaster was.

The Indus witnessed floods on a similar scale in 1973, 1975, 1976, 1978, 1986, 1988 and 1992. Clearly, the breaches of the dykes were not the sole cause of the devastation. In fact, the root cause of last year's catastrophe was the irreversibly altered regime of the river. The sustained flow of 1.1 million cusecs of water for 11 days at three Sindh barrages corroborates the fact that the obliteration of the river's regime has altered the flood pattern.

If the real causes are not addressed, the treatment of the physical infrastructure will leave the problem only half-solved.

That is not to deny that the repair of the crumbled infrastructure should be the top priority, yet failing to contemplate other dimensions would amount to lack of prescience.

Three key factors would determine the scale of future floods in the Indus river basin — climate change, deforestation in watershed areas and flood plains, and tampering with the river's regime. If these long-term issues are not addressed, the Indus river basin will remain under the perennial peril of disasters, oscillating between drought and flood cycles. The unpredictability of weather is an attribute of climate change. Considering that the problem has no localised solutions, adaptation is the only option. This involves a mixture of biological, social and

technical responses. Alterations in flood plains through climatically insensitive engineering works have introduced an irreversible distortion in the river regime to which floods are a sequel.

In the years before Tarbela Dam was built, Sindh would receive a flood of 300,000 cusecs almost every year — and 500,000 cusecs in a number of years. This flood pattern shaped the river regime over the decades and all social and administrative systems were developed in consonance with it.

However, in the post-Tarbela years, high- or medium-level floods became a rare phenomenon. This exposed vast swathes of katcha land for human settlements and agriculture. According to some estimates, approximately 500,000 acres of katcha land is under human settlement in Sindh. The population bulge in settled areas, coupled with a toothless administrative apparatus, has resulted in massive encroachments on the flood plains. Other structures such as bridges and barrages have choked flood plains with obstacles, interfering with the natural stream. Illegal local dykes to protect agricultural activity on the flood plains has also disturbed the river and caused it to swell with high waves near flood-protection embankments.

Since flood disasters are seldom examined from these aspects, most of the discourse is confined to administrative failures, cloaking the fundamental causes of the cataclysm. Before embarking on further engineering solutions such as big dams, the impact of existing engineering structures should be studied. Climate change can potentially render most engineering solutions antediluvian very soon. The conventional approach of solving problems through complicated solutions will only aggravate the situation. Prudence is required.

Pakistan's once enviably well-managed watershed apparatus is now in ruins. Unbridled deforestation in the upper reaches and in the plains of Sindh and Punjab has deprived the river of its wave-absorbing shield. Pakistan is amongst those countries that have the lowest levels of forest cover. According to some estimates, the country loses some 66,718 acres of forest cover annually. Approximately 5,683 acres of riverine forest is lost every year. Riverine forests not only retard the momentum of floods, they also stabilise the riverbed and river banks.

In recent decades, these forests have been erased by the timber mafia in hilly areas and by land grabbers in the plains. In Sindh and Punjab, forests were systematically chopped down to clear land for agriculture and new settlements. Any serious effort to regenerate the lost forest does not seem afoot either. Yet a flood plain bereft of forest cover will remain susceptible to floods.

While taking the short-term steps, the government ought to mull over long-term remedies too. The Himalayan glacial ecosystem is negotiating its way through a climatic onslaught and increased melting is likely to generate even more ferocious floods in the catchments of Pakistan, India, Bangladesh and Nepal. This merits the consideration of integrated solutions.

Daily Dawn-21st June 2011


سیلاب کی بنیادی وجوہات

نصیر حسین کے مضمون سے اقتباس

صوبائی حکومت نے کھالوں اور سم نالوں کی بحالی کے لیے 14 بلین روپے کی 76 اسکیموں کی منظوری دی، تاہم حکومت کی جانب سے صرف 5 بلین روپے فراہم کیے گئے۔ جس کے نتیجے میں صوبائی حکومت آئیندہ سیلابی تباہی سے بچنے کے لیے صرف چودہ انتہائی ضروری مقامات کی مرمت کروا سکی۔ بیورو کریسی کے باعث صرف سترہ فیصد مطلوبہ کام ہو سکا۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی، جنگلات کی بے دریغ کٹائی اور دریاؤں کے کنارے بڑھتی ہوئی آبادی سے سیلاب کی تباہ کاریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مختصر مدتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ طویل مدتی منصوبوں پر بھی کام کرنا ہوگا۔

(روزنامہ ڈان۔ 21 جون 2011ء)

دو ہزار برس میں آنے والے سیلاب کی سپریم کورٹ کی ہدایت پر انکوائری کے لیے قائم کیے گئے فلڈ کمیشن نے انکشاف کیا ہے کہ توڑی میں پڑنے والے تباہ کن شگاف کی وجہ محکمہ انہار کی لاپرواہی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیشتر سم نالوں کی صفائی کا کام مقررہ طریقے کار کے مطابق نہیں کیا گیا۔ اس سے قبل ہونے والی انکوائریوں میں رپورٹ کیا گیا کہ سیلاب سے بچاؤ کے سینٹر ذمہ داروں نے اس کام کے لیے تیار کیا جانے والا مینول پڑھنا تک نہیں۔ بحالی کے کام کا آغاز اولاً ریلیف ورک کے باعث تاخیر سے شروع ہوا اور بعد میں اس میں حکومت کی جانب اسکیموں کی منظوری میں تاخیر ہوئی۔



سوات میں پرائمری اسکول کے مسائل اور ان کے حل پر ای۔مکالمہ



کیو، اساتہ اور والدین کے درمیان مکالمہ



ڈپٹی کمشنر آفیسر DCO مشاورت کے لیے انتظامی امور اور سیلاب کی پیشگی تیاریوں کی جائزہ مینٹنگ میں ایس پی او کو مشاورت کے لیے مدعو کیا۔

مختلف سیاسی جماعتوں کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا تعلیمی صورتحال کے جائزہ کے لیے اجلاس۔



ایس پی او کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ انصاف، رواداری، سماجی بھلائی اور امن کے لئے اس کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، جیل ایک ایسی جگہ ہے جو مہذب معاشروں میں سدھار، احتساب اور تربیت کی جگہ ہوتی ہے اس بات کے مد نظر، ایس پی او نے جیل کے اہلکاروں کو انسانی حقوق کے حوالے سے تربیت دی تاکہ ان کے رویے میں مثبت تبدیلیاں آجائیں اور اس حوالہ سے جیل کے اہلکاروں کا کہنا تھا کہ ان کو ان موضوعات پر اس طرح کی معلومات اور تربیت پہلی مرتبہ ملی ہے، انہوں نے ایس پی او سے اصرار کیا کہ مزید اس طرح کے پروگرام منعقد کئے جائیں۔



موجودہ سکول



پہلے سکول کی حالت

اسکول کی اس عمارت کو قابل استعمال بنایا گیا جو اس سے پہلے ای۔کھنڈلنا دکھائی دیتی تھی۔



We Want Peace Do You?

Everyone desires sustainable peace in Karachi, and for this all of us waiting for Government action and political parties' action plans. SPO decided to involve people and to know their will, a stall in jashn Faiz was organized with signature campaign.

The people from all walks of life came and showed their wish to have peace again in the city. They also appreciated SPO's activity for peace.

ایس پی او پیکل سینٹر

30-A، ناظم الدین روڈ، F-10/4، اسلام آباد

فون: 2104679، 2104680، 2104677، 111 357 051-111 فیکس: 051-2112787

www.spopk.org info@spopk.org

بلوچستان	پنجاب	سندھ	خیبر پختون خوا	آزاد کشمیر
<p>ایس پی او کوئٹہ مکان نمبر B-55، نزد ورکنگ ڈومین ہاسٹل جناح ٹاؤن، کوئٹہ فون: 081-2870750 فیکس: 081-2870751 ای میل: quetta@spopk.org</p>	<p>ایس پی او ملتان مکان نمبر 339، 340، بلاک ڈی، شاہد رکن عالم کالونی ملتان فون: 061-6772995 فیکس: 061-6772996 ای میل: multan@spopk.org</p>	<p>ایس پی او حیدرآباد پلاٹ نمبر 158/2، مقبہ محمد عثمان ذبیحانی کارائیکری علمدار پورک گروڈیشن، قاسم آباد، حیدرآباد فون: 022-2654725 فیکس: 022-2652126 ای میل: hyderabad@spopk.org</p>	<p>ایس پی او پشاور مکان نمبر 15، گلی نمبر 1، سیکٹر N-4، فیز 4 حیات آباد، پشاور فون: 091-5811792 فیکس: 091-5813089 ای میل: peshawar@spopk.org</p>	<p>ایس پی او مظفر آباد مکان نمبر B-35، اریجمنٹ مظفر آباد فون: 05822-434432 فیکس: 05822-434415 ای میل: muzaffarabad@spopk.org</p>
<p>ایس پی او تربت پہلی روڈ، تربت فون: 0852-412333 فیکس: 0852-413884 ای میل: turbat@spopk.org</p>	<p>ایس پی او لاہور مکان نمبر A-76، شیرشاہ بلاک، نیوگارڈن ٹاؤن لاہور فون: 042-35863211 فیکس: 042-35863213 ای میل: lahore@spopk.org</p>	<p>ایس پی او کراچی G-22، B/2، پارک لین کاشین بلاک نمبر 5، کراچی فون: 021-5836213 فیکس: 021-5873794 ای میل: karachi@spopk.org</p>	<p>ایس پی او ڈیرہ اسماعیل خان مکان نمبر 2، گلی نمبر 2، ونیم ہاؤس سکیم نزدیک سیم کاٹی، ڈیرہ اسماعیل خان فون: 0966-713231 فیکس: 0966-733917 ای میل: dikhan@spopk.org</p>	

مشارکت کے مندرجات سے ادارے کا مقصد ہونا ضروری نہیں

ایس پی او کینیڈا آرڈیننس 1984 کی دفعہ 42 کے تحت سیکورٹیز ایکٹیویشن آف پاکستان (کارپوریٹ لاء اتھارٹی) سے منظور شدہ ہے۔ ادارے کو آکٹومبلس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 2(36) کے تحت اسٹیٹ بھی حاصل ہے۔

Edit/Design & Production
Nusrat Zehra - Riazat Hussain

Field Team:

Shahnawaz Khan (Multan), Jamshed Sultan (Lahore), Imdad Ali (Quetta), Mehrab Ali (Turbat)
Samreen Ghauri (Hyderabad), Munawar Ali (Karachi), Inayat ur Rehman (Peshawar), Asghar Khan (D.I.Khan) Qamar-uz-Zaman (AJK)